



## SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Press Release  
For immediate Release  
October 28, 2016

### **SECP seminar about its recent facilitative measures**

ISLAMABAD, October 28: Securities and Exchange Commission of Pakistan organized a seminar in Karachi in collaboration with the Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI) to create awareness about its various facilitative reform measures to improve the regulatory framework and doing business environment for the robust corporate growth in the country.

The measures include same day online incorporation, fast company incorporation within a shortest span of time of two hours under FTRS (subject to adoption of short memorandum of association), reduced company incorporation fee of only Rs2000 under offline mode and Rs1,000 under online mode, online payment of fee through online funds transfer and credit cards, online submission of application for obtaining digital signatures from NIFT, free of cost certified copies, expanding the SECP's outreach through the establishment of CRO in Gilgit and facilitation counters in Sialkot, Gwadar and Abbottabad apart from existing 8 CROs.

In spite of aforesaid measures, the promoters generally do not apply to the SECP directly for companies' incorporation, increasing time and cost of doing business. The SECP has enabled a regime, which facilitates the promoters in forming a company without the help of any third party and complete assistance is being provided by the SECP's facilitation officers. It is needed to promote an environment where direct interaction of stakeholders with the SECP prevails. The need is to join hands for mutual cooperation and assistance for the growth of the corporate sector and to reduce the cost of doing business in the country.

## سہولیاتِ اقدامات کے بارے میں ایس ای سی پی کا آگہی سیمینار

اسلام آباد، ۲۸ اکتوبر: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے انضباطی فریم ورک میں بہتری اور ملک میں ترقی کے لئے ایک مضبوط کاروباری ماحول فراہم کرنے کی خاطر حال ہی میں کئے گئے متعدد سہولیاتِ اقدامات کے بارے میں آگہی پھیلانے کے لئے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف پی سی سی آئی) کے اشتراک سے کراچی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔

ان اقدامات میں یک روزہ آن لائن تشکیل، (کمپنی کے مختصر دستور کے اختیار سے مشروط) ایف ٹی آر ایس کے تحت دو گھنٹے کی قلیل ترین مدت میں کمپنی کی تیز ترین تشکیل، کمپنی کی تشکیلی فیس میں تخفیف جو کہ آف لائن موڈ کے تحت صرف دو ہزار روپے ہے اور آن لائن موڈ کے تحت ایک روپے ہے، کریڈٹ کارڈ اور آن لائن فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے فیس کی ادائیگی، نفٹ سے ڈیجیٹل دستخط حاصل کرنے کے لئے آن لائن درخواست، بلا معاوضہ مصدقہ نقول، موجودہ آٹھر جسٹریشن دفاتر کے علاوہ گلگت میں سی آر او اور سیالکوٹ، گوادر اور ایبٹ آباد میں سہولتی کاؤنٹرز کے قیام سے ایس ای سی پی کی پہنچ میں اضافہ شامل ہیں۔

مندرجہ بالا اقدامات کے باوجود، پروموٹرز عموماً براہ راست ایس ای سی پی کو کمپنی کی تشکیل کی درخواست نہیں دیتے جس کے نتیجے میں پاکستان میں کاروبار کرنے کے اخراجات اور وقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایس ای سی پی نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جو کسی فریق ثالث کی مدد کے بغیر پروموٹرز کو کمپنی کی تشکیل میں سہولت فراہم کرتا ہے اور ایس ای سی پی کے امدادی افسران کی جانب سے مکمل رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک ایسے ماحول کو فروغ دینے ضرورت ہے کہ سٹیک ہولڈرز کا ایس ای سی پی کے ساتھ براہ راست رابطہ اور تعلق ہو۔ ہمیں مل کر باہمی امداد کے ذریعے کارپوریٹ شعبے کی ترقی میں سہولت فراہم کرنا ہوگی اور ملک میں کاروبار کرنے کے اخراجات کو کم کرنا ہوگا۔